

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

December 3, 2020

### **SECP approves framework for digital onboarding of investors**

**ISLAMABAD, December 3:** The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has approved a ground-breaking initiative to enable all Pakistani resident and non-resident investors to open online accounts in the capital market.

The new regime, that is part of SECP's digital transformation agenda, allows investors to seamlessly open his or her account with a broker from anywhere in the country without requiring to submit any documents physically or visit a broker. The new hassle-free process shall enable investors to commence trading swiftly.

However, to ensure maximum investor protection, an alternate online Customer Verification process has been introduced for opening of online accounts. The online verification will be conducted independently by the Centralized KYC Organization. In addition, the account opening process has been made simpler by reducing the number of pages to be signed by the investors.

The new account opening system is a continuation of SECP's reform agenda that aims at enhancing investor outreach, introducing digitization and ensure robust growth of the capital markets. A sizeable investor base is a crucial stepping stone for development of any capital market and is therefore part of the major objectives of the SECP. It is expected that the new regime would revolutionize Pakistan's capital markets and contribute significantly towards economic growth in the country by channeling investments and savings through the market.

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹ آن لائن کھولنے کی منظوری دے دی

اسلام آباد (دسمبر 3): سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ملک میں موجود اور نان ریڈنٹ پاکستانیوں کو پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لئے آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ ملک کی کیپٹل مارکیٹ میں وسعت اور سرمایہ کاروں کی تعداد میں اضافے کے لئے یہ ایک انتہائی اہم اقدام ہے چونکہ کیپٹل مارکیٹ میں دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کار چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں یا بیرون ملک مقیم ہوں، کسی بروکر یا ایجنٹ کے دفتر میں جائے بغیر ہی اپنا سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھول سکیں گے۔

مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا نیا نظام اور فریم ورک ایس ای سی پی کی جانب سے مارکیٹ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لئے کی جانے والی اصلاحات کا تسلسل ہے۔ نئے فریم ورک میں سرمایہ کار تمام ضروری معلومات اور دستاویزات آن لائن جمع کروا سکیں گے جبکہ سرمایہ کار کا اکاؤنٹ بھی تیز رفتاری کے ساتھ کھل سکے گا۔

تاہم، سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور قوانین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے، آن لائن اکاؤنٹ کھولنے والے سرمایہ کار (صارف) کی تصدیق کا عمل بھی آن لائن ہی مکمل کیا جائے گا۔ آن لائن سرمایہ کار کی تصدیق و توثیق سینٹر لائزڈ کے وائی سی کا ادارہ آزادانہ طور پر کرے گا۔ اس کے علاوہ، کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا اکاؤنٹ کھولنے کے لئے درخواست فارم کے صفحات کی تعداد کو بھی کم کر دیا گیا ہے تاکہ سرمایہ کاری کا اکاؤنٹ کھولنے کا عمل سہل ہو۔

آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا یہ نیا نظام ایس ای سی پی کے اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے جس کا مقصد مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد کو بڑھانا، سہل اور آسانی فراہم کرنے کے لئے ٹیکنالوجی کو متعارف کروانا اور مارکیٹ میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔